



سوال

(486) استثناء بالید کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مشت زنی کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ ازراہ کرم کتاب و سنت کے دلائل سے تفصیلی جواب مطلوب ہے۔ جزاکم اللہ خیرا

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

شریعت اسلامی پسینے پیر وی کرنے والوں کو پاک دامن اور عفت کا درس دیتی ہے اور زنا و فحاشی کے تمام راستے بند کرتی ہے۔

انسان کی شہوانی احتیاج کو پورا کرنے کے شریعت نے دو راستے بتلائے ہیں ایک بیوی اور دوسری لونڈی کے ساتھ وطی کے ذریعے اس احتیاج کو رفع کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَغَيْرُ مُلْمِئِينَ - فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ - (المومنون: 5 تا 7)

”جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملائیموں میں سے نہیں ہیں۔ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں“

امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مشت زنی حرام ہے اس لیے کہ یہ عمل ان دونوں قسموں (بیوی، باندی) سے خارج ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: 3: 264)

بیوی اور باندی کے سوا شرمگاہ کا استعمال حلال نہیں اور نہ ہی استثناء بالید حلال ہے۔ (احکام القرآن للشافعی، ص 210)

مشت زنی کے بھی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ استثناء بالید سے عضو مخصوصہ کی رگیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور ذکاوت حس تیز ہونے سے حساس ہو جاتی ہے جس سے سرعت انزال جیسی مرض لاحق ہو جاتی ہے اور ازدواجی زندگی میں بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا اس قبیح عادت سے بچنا چاہیے غیر شادی شدہ کہ جس کے پاس شادی کی استطاعت نہیں۔ نبی ﷺ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ (صحیح مسلم: 1019)



وبالند التوفیق

فتاویٰ ارکان اسلام

حج کے مسائل